

ROOTWORDS OF SURAH RAAD 12-29

رَعَدٌ	الثَّقَالِ	يُنشِئُ	طَمَعًا	النَّبْرَقَ
ر ع د	ث ق ل	ن ش أ	ط م ع	ب ر ق
گرجنے والا	بوجھل / بھاری بھاری	پیدا کرتا ہے / اٹھاتا ہے	امید	بجلی
فَاهُ	كَفَيْهِ	كَبَّاسِطٍ	الْمِحَالِ	الصَّوَاعِقَ
ف و ہ	ك ف ف	ب س ط	م ح ل	ص ع ق
اس کے منہ تک	اپنے دونوں ہاتھ	جیسے پھیلا دے	قوت / پکڑ	بجلیاں
السَّيْلِ	أَوْدِيَةٍ	فَسَّالَتْ	الْأَصَالِ	بِالْغَدْوِ
س ي ل	و د ي	س ي ل	أ ص ل	غ د و
سیلاب	نالے / وادیاں	پھر بہ نکے	شام	صبح
جُفَاءً	حِلْيَةٍ	يُوقِفُونَ	رَابِيًا	زَبَدًا
ج ف أ	ح ل ي	و ق د	ر ب و	ز ب د
سوکھ کر / خشک ہو کر	زیور	وہ جلاتے ہیں	پھولا ہوا	جھاگ
طُوبَى	يَذْرَعُونَ	يَصِلُونَ	فَيْمَكْتُ	
ط ي ب	ذ ر أ	و ص ل	م ك ث	
خوشحالی	وہ دور کرتے ہیں	جوڑے رکھتے ہیں	پس ٹھہرا رہتا ہے	